



ٹھہر جاؤ (سن لو!) تم اتنا ہی عمل کیا کرو، جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم (ثواب دینے سے) اللہ نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم (عمل کرنے سے) اکتا جاؤ اور اللہ کو دین (کا) وہی عمل زیادہ پسند ہے، جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت ان کے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ فلاں عورت ہے، جو اپنی نماز کا ذکر کر رہی ہے! آپ نے فرمایا: ٹھہر جاؤ (سن لو!) تم اتنا ہی عمل کیا کرو، جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی قسم (ثواب دینے سے) اللہ نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم (عمل کرنے سے) اکتا جاؤ اور اللہ کو دین (کا) وہی عمل زیادہ پسند ہے، جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے
[صحیح] [متفق علیہ]

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اس نے انہیں بتایا کہ وہ بکثرت عبادت کرتی اور نماز پڑھتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بتائی، تو آپ نے انہیں عبادت میں مبالغہ کرنے اور نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اکتاہٹ کا برتاؤ نہیں کرے گا، بلکہ تم خود اکتا جاؤ اور عبادت چھوڑ دو؛ اس لیے تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اتنا عمل کرو، جسے ہمیشہ کر سکو؛ تاکہ اس کا ثواب اور اس کا فضل و کرم تمہیں ہمیشہ ملتا رہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5845>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

